

الحكمة

Part-02

Arabic/Urdu

**COMPILED AND TRANSLATED
BY
DR. SAJAD**

ABOUT THE AUTHOR

DR. SAJAD RASHID MIR IS A DISTINGUISHED SCHOLAR IN ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE, HOLDING BOTH A MASTER'S DEGREE AND A DOCTORATE FROM THE UNIVERSITY OF KASHMIR. WITH OVER THIRTEEN YEARS OF TEACHING EXPERIENCE, HE HAS SHARED HIS EXPERTISE AT PRESTIGIOUS INSTITUTIONS LIKE INDIAN SCHOOL MUSCAT IN OMAN, DPS IN DOHA QATAR, AND OUR OWN HIGH SCHOOL IN DUBAI CURRENTLY WORKING AN ASSISTANT PROFESSOR .

DR. SAJAD HAS AUTHORED SEVERAL NOTABLE WORKS, INCLUDING "INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF HADITH," "RESPONSIBILITY OF -YOUTH AND THEIR CHALLENGES," "AQWAL-E ".RASOOL (SAW)," AND "AQWAL-E-HIKMAH

اللہ کے نام سے

شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور شکرگزاری اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے اندر کی برائیوں اور اپنے برے اعمال کے نتائج سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جسے وہ گمراہ ہونے دے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد (ﷺ) اس کے رسول اور بندے ہیں۔

محمد (ﷺ) کی تعلیمات کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام صحیح طور پر پہنچایا، امانت کا حق ادا کیا، اور قوم کو نصیحت کی۔

محمد (ﷺ) سب سے عزت دار اور عقلمند رہنما ہیں۔ ہمیں ان کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔" (القرآن)

جو کام اللہ کی تعریف، ذکر یا "بسم اللہ" کے بغیر شروع کیا جائے، اس میں برکت اور تکمیل کی ضمانت نہیں ہوتی۔

اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

الدُّنْيَا دَارٌ مَمَرٌ لَا دَارٌ مَقَرٌّ

- دنیا ایک گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔

عَالِمٌ بِلَا عَمَلٍ كَسَحَابٍ بِلَا مَطَرٍ

- عمل کے بغیر عالم ایسا ہے جیسے بادل بارش کے بغیر۔

سُلْطَانٌ بِلَا عَدْلٍ كَنَهْرٍ بِلَا مَاءٍ

- بغیر عدل کے حکمران کی مثال ایسی ہے جیسے دریا بغیر پانی کے۔

كَثْرَةُ الْاِسْتِغْفَارِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ .

- استغفار کی کثرت کرنا رزق کو بڑھاتی

ہے۔

غَنِيٌّ بِلا سَخَاوَةٍ كَشَجَرٍ بِلا ثَمَرٍ

- سخاوت کے بغیر امیر ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے .

الاعراض عن الله سبب الهموم

- اللہ سے منہ موڑنا غموں کا سبب ہے۔

لَا تَسْتَضْفِرُ عَدُوًّا وَإِنْ ضَعُفَ .

- اپنے کسی دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو۔

قِلَّةُ الْأَقْلِ يَمْنَعُ كَثِيرًا مِنْ أَعْلَالِ

الْجِسْمِ .

- کم کھانا انسان کو بہت سی جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے۔

بِالْعَدْلِ يُحَصَّلُ الثَّوَابُ لَا بِالْكَسَلِ

- نیکی انصاف سے حاصل ہوتی ہے،
سستی اور کاہلی سے نہیں۔

رَأْسُ الدِّينِ الْمَعْرِفَةُ .

- دین کی اصل بنیاد معرفت ہے۔

السَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بِغَيْرِهِ

- خوش نصیب اور عقلمند وہ انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔

الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَحِ

- صبر خوشی / کامیابی کی کنجی ہے۔

الصَّنَاعَةُ فِي الْكَفِّ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ

• ہاتھ کی محنت غربت سے پناہ دیتی

ہے۔

قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ

الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ

• احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے

اور عقل مند کی زبان اس کے دل

میں ہوتی ہے۔

كُنْ قَنِعًا تَكُنْ غَنِيًّا

- قناعت اختیار کرو، تم غنی ہو جاؤ گے۔

حُبُّ الدُّنْيَا يُفْسِدُ العَقْلَ وَيُصِمُّ الْقَلْبَ عَنِ سَمَاعِ الحِكْمَةِ -

- دنیا کی محبت عقل کو خراب اور برباد کرتی ہے اور دل کو بہرا بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان حکمت کی باتیں نہ سنتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔

كُنْ مُتَوَكِّلًا تَكُنْ قَوِيًّا

- توکل اختیار کرو، تم طاقتور بن جاؤ گے۔

شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُعِينُ عَلَى الْمَظْلُومِ وَيَنْصُرُ الظُّلْمَ.

- سب سے برے لوگ وہ ہیں جو مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم کی حمایت کرتے ہیں۔

شَيْئَانِ لَا يُعْرَفُ فَضْلُهُمَا إِلَّا مِنْ فَقْدِهِمَا الشَّبَابُ وَالْعَافِيَةُ.

- دو چیزیں ایسی ہیں جن کی فضیلت صرف ان کے فقدان سے ہی پتا چلتی ہے: جوانی اور صحت۔

الْكَسَلُ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ يُبْعِدَانِ مِنَ اللَّهِ وَيُورِثَانِ الْفَقْرَ .

- سستی اور زیادہ سونا اللہ سے دور کرتے ہیں اور غریبی کا سبب بنتے ہیں۔

لَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْأَشْرَافِ تَعْجِيلُ الْإِنْتِقَامِ .

- شرفاء کی عادت نہیں کہ وہ بدلہ فوراً لے۔

إِيَّاكَ وَحُبِّ الدُّنْيَا - فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَمَعْدِنُ كُلِّ بَلِيَّةٍ .

- دُنیا کی محبت سے بچو، کیونکہ یہ ہر گناہ کی جڑ اور ہر مصیبت کا منبع ہے۔

سَلُّ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ

- راستے / سفر پر جانے سے پہلے اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھو۔

سَلُّ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ

- گھر خریدنے سے پہلے اپنے ہمسائے کے بارے میں پوچھو۔

مِثْلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَلَا
يَعْمَلُ بِهِ كَمِثْلِ أَعْمَى بِيَدِهِ سِرَاجٌ
يَسْتَضِيءُ بِهِ غَيْرُهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ .

- جو شخص لوگوں کو بہلائی سکھاتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس نابینا کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہوتا ہے جس سے دوسرے روشنی حاصل کرتے ہیں، مگر وہ خود اسے نہیں دیکھ پاتا۔

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ (كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ) مَنْ عُرِفَ
بِالْحِكْمَةِ لَاحَظَتْهُ الْعُيُونُ بِالْوَقَارِ.

• امیر المؤمنین علی بن ابی طالب

(کرّم اللہ وجہہ) نے فرمایا: جو

شخص حکمت سے شناسا ہو، اس

کی نگاہوں میں وقار جھلکتا ہے۔

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: تَحْتَاجُ الْقُلُوبُ
إِلَى أَقْوَاتِهَا مِنَ الْحِكْمَةِ كَمَا تَحْتَاجُ
الْأَجْسَامُ إِلَى أَقْوَاتِهَا مِنَ الطَّعَامِ

- بعض حکماء کا کہنا ہیں : کہ دلوں کو غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی غذا حکمت ہے ، جیسے جسموں کو غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے کھانے سے۔

العَالِمُ عَرَفَ الْجَاهِلَ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا -
وَالجَاهِلُ لَا يَعْرِفُ الْعَالِمَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ
عَالِمًا.

- عالم نے جاہل کو اس لیے پہچانا کیونکہ وہ خود کبھی جاہل تھا، اور جاہل عالم کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ وہ کبھی عالم نہیں تھا۔

الفشل يعلم النجاح-

- ناکامی کامیابی کا درس دیتی ہے۔

في العجلة الندامة وفي التأني السلامة۔

- جلدی میں پچھتاوا ہوتا ہے، آرام اور صبر سے کام کرنے میں سکون ہوتا ہے

الشَّدِيدُ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ .

- حقیقی طاقتور انسان وہ نہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہو یا دوسروں پر غالب آئے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، خاص طور پر غصے کے وقت۔

سر النجاح هو الثبات على الهدف .

- کامیابی کا راز اپنے مقصد پر قائم رہنے اور اس کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے کام کرنے میں ہے،

الرجل الذي يزرع جبلاً يبدأ بنقل الاحجار الصغيرة .

- بڑے اہداف اور عظیم کامیابیاں چھوٹے اقدامات سے شروع ہوتی ہیں۔

الأعمال تكلم أكثر من الأقوال -

• کہنے سے کرنا بہتر ہے -

من قلّ صدقہ قلّ صدیقہ -

• جس کے سچائی میں کمی ہوتی ہے

اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں -

العلم مصباح في الظلمة -

- علم اندھیرے کا نور ہے -

العلم مفتاح الحكمة -

- علم حکمت کی چابی ہے -

مَنْ يَتَعَلَّمُ قَلِيلًا يَعْمَلُ قَلِيلًا -

• کم سیکھنے والا کم عمل کرتا ہے۔

مَنْ صَمَتَ نَجَا -

• جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔

الأحمق مَنْ نَسِيَ رَبَّهُ -

- رب کو بھولنے والا احمق ہے۔

الوقتُ مِنْ ذَهَبٍ -

- وقت سونے کی مانند ہے۔

قُلُوبُ الْعُقَلَاءِ حُصُونُ الْأَسْرَارِ .

• عقلمندوں کے دل، رازوں کے قلعے

• ہوتے ہیں •

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ

مَرَّتَيْنِ (حدیث) .

• مومن کو ایک سوراخ سے دو بار

• نہیں ڈسا جاتا •

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ -

- علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ

كل شيء يتغير مع مرور الوقت-

- وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے۔

لَا تَخَفْ مِنْ شَيْءٍ -

• کسی چیز سے مت ڈر -

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ

الِاسْتِغْفَارِ.

• ہر درد کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا

استغفار ہے -

الحلم سيد الأخلق -

- نرمى اخلق كا اعلى درجه هـى-

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

-

- اپنے آپ كا محاسبه كرو اس سے پہلے
كه تمارا حساب ليا جائے-

رَجُلٌ بَلَا مَالٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ بَلَا شرف

- غریب آدمی بے عزت شخص سے بہتر ہے۔

خیراً صحاب من یدلک علی الخیر۔

- بہترین دوست وہ ہے جو تم میں خیر کی طرف بلائے۔

مَنْ اجْتَهَدَ فِي الْحَيَاةِ فَازَ

- جس نے زندگی میں محنت کی وہ کامیاب ہوا۔



الْأَحْمَقُ يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ إِنَّهُ عَالِمٌ

- احمق خود کو عالم تصور کرتا ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ .

• دنیا کی محبت، ہر گناہ کی جڑ ہے۔

الرَّجُلُ الْقَوِيُّ يَعْمَلُ وَالضَّعِيفُ

يَتَمَنَّى .

• طاقتور آدمی کام کرتا ہے اور کمزور

صرف تمنا کرتا ہے۔

اللّٰهُ وَاحِدٌ .

• خدا ایک ہے

سَلَامَةُ الْاِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

.

• انسان کی سلامتی اس کی زبان

میں ہے

حَبْلُ الْكِذْبِ قَصِيْرٌ .

• جھوٹ کی رسی کمزور ہوتی ہے۔

الْعَافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ : تِسْعَةٌ فِي الصَّمْتِ وَالْعَاشِرَةُ فِي الْعُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ .

- عافیت کے دس حصے ہیں: نو حصے خاموشی میں ہیں اور دسواں حصہ لوگوں سے الگ تھلگ یعنی دور رہنے میں ہے۔

التجارة لا تعرف صديقا ولا قريبا

- تجارت، دوستی اور رشتہ داری سے بے خبر ہے۔

**من يَتَوَقَّفُ عَنِ التَّعْلَمِ ، لم يتعلم
شيئاً .**

- جس شخص نے سیکھنا چھوڑ دیا ،
اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ۔

**المعرفة كنز ، يتبع صاحبه اينما
ذهب .**

- علم ایسا خزانہ ہے ، جو اپنے مالک کا
پیچھا کرتا ہے جہاں بھی وہ جائے ۔

خَلَقَ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ عَيْنَيْنِ .. عَيْنَ

تَرَى الْخَيْرَ وَعَيْنَ تَرَى الشَّرَّ ، وَ

الْعَقْلَ بَيْنَهُمَا لِيَحْكُمَ وَ يَخْتَارَ.

• اللہ نے انسان کے لئے دو آنکھیں پیدا

کیں... ایک آنکھ جو بھلائی کو

دیکھتی ہے اور دوسری جو برائی کو،

اور عقل ان دونوں کے درمیان ہے

تاکہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرے

اور حق کا انتخاب کرے۔

حسن الخلق يستر كثيراً من
السيئات ، كما أن سوء الخلق
يغطي كثيراً من
الحسنات .

- اچھے اخلاق بہت ساری برائیوں کو
چھپاتے ہیں، جیسے کہ برے اخلاق
بہت ساری نیکیوں کو چھپاتے
ہیں۔

لَا تَحْمِلْ عَلَى يَوْمِكَ هَمَّ سَنَتِكَ

- اپنے آج کے دن پر کل کے غم کا
بوجھ نہ ڈال۔

فعل الخير حسن، والاحسن منه

سترہ .

- نیکی کرنا بہترین عمل ہے مگر اس کو چھپانا سب سے بہترین عمل ہے۔

**الجميع يفكر في تغيير العالم و
لكن لا احد يفكر في تغيير نفسه .**

- سب لوگ دنیا کو بدلنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں نہیں سوچتا

على الإنسان أن ينظر لنفسه
بتأمل و عمق قبل أن ينتقد
الآخرين .

- انسان کو دوسروں کی تنقید کرنے سے پہلے خود کو غور سے اور گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔

- قل الحق و إن كان عليك .
- سچ بولو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو۔

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ مَنَعَهُ اللَّهُ

رَحْمَةً

- جس نے لوگوں پر رحم نہیں کیا اس نے اللہ کی رحمت کا انکار کیا۔

**أَلْجَاهِلُ يَطْلُبُ الدَّرَابِمَ وَالْمَالَ
وَالْعَاقِلُ يَطْلُبُ الْكَمَالَ وَالْعِلْمَ.**

- جاہل مال اور درہم، عقلمند کمال اور علم کا طلب گار ہوتا ہے

الصمت دليل العقل

- خاموشی، عقل مندی کی دلیل ہے

الفضول وراثۃ الندم

- فضول باتیں کرنا ندامت کا سبب بنتی ہے۔

من يساعد الناس يسا عدھم اللہ

- جو دوسروں کی مدت کرتا ہے اللہ اس کی مدت کرتا ہے۔

أَلْعَالِمُ بِدُونِ عَمَلٍ مِثْلُ إِنْسَانٍ

بِدُونِ لِسَانٍ

- بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے انسان بغیر زبان کے۔

مَنْ كَذَبَ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ

• جس نے جھوٹ کہا وہ زمین پہ گر گیا۔

صَلِّحْ عَقْلَكَ بِالْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

تُزَيِّنُ جَسَدَكَ بِالْجَوَاهِرِ .

• اپنی عقل کو علم سے سجانا جسم کو کیڑوں سے سجانے سے بہتر ہے

إِخْتَرَكْلَامَكَ قَبْلَ أَنْ تَتَحَدَّثَ

- بات کرنے سے پہلے الفاظ چنو۔

الزَّمَنُ يَشْفِي كُلَّ شَيْءٍ .

- وقت سارے زخموں کا مرحم ہے۔

من أطاع هواه باع دينه بدنياه

- جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اس نے دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا۔

الصمتُ صفةُ الحكماء .

- خاموشیِ داناوں کی صفت ہے

حياةُ الدنيا لعب ولهو (القرآن)

• دنیا کی زندگی کھیل کود ہے ۔

مَتَاعُ الدنيا قليل (القرآن)

• دنیا کا سامان بہت کم ہے ۔

A SMALL FAVOR

ASALAMUALAIKUM DEAR READERS

THANK YOU SO MUCH FOR READING "الحكمة." I TRULY APPRECIATE YOUR CHOICE AND HOPE YOU FOUND SOME ACTIONABLE INSIGHTS THAT ENRICH YOUR DAILY LIFE.

COULD I ASK FOR JUST 30 MORE SECONDS OF YOUR TIME? IF YOU ENJOYED THE BOOK, I WOULD BE GRATEFUL IF YOU COULD LEAVE A REVIEW ON THE PLATFORM WHERE YOU PURCHASED IT. REVIEWS ARE CRUCIAL FOR AUTHORS LIKE ME AND CAN HELP OTHERS DISCOVER THE BOOK.

THANK YOU AGAIN FOR YOUR SUPPORT! I'D LOVE TO SEE YOUR THOUGHTS.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،
وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

*

**"O ALLAH, I ASK YOU FOR BENEFICIAL
KNOWLEDGE, PURE SUSTENANCE, AND
ACCEPTED DEEDS."**

**THANK YOU
FOR
READING
THIS
BOOK**